

Australian Centre for
Disability Law

Urdu | اردو



آپ کے گولز
(مقاصد)

سکول میں اپنی ضرورت کی مدد حاصل کرنا



www.disabilitylaw.org.au

مضامین


2	اس ٹول کٹ کا تعارف
3	آپ کے گولز (مقاصد)
6	اپنے گولز بتائیں
7	مفید ٹولز

یہ معلومات انفارمیشن، لنکیجز اینڈ کیپیسیٹی بلڈنگ (ILC) پروگرام کے تحت آسٹریلیا گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ آف سوشل سروسز کی فنڈنگ سے پیش کی جا رہی ہیں۔

CID نے اس ڈاکومنٹ کو آسان تحریر بنایا ہے۔

اگر آپ کوئی بھی تصویر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو CID سے پوچھیں۔

CID پر business@cid.org.au سے رابطہ کریں۔



حصہ 1 آپ کے گولز (مقاصد)



اس ٹول کٹ کا تعارف

یہ ٹول کٹ Australian Centre for Disability Law کی طرف سے ہے۔

ایک ٹول کٹ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے جن کا آپ کو علم ہونا چاہیے یا جو آپ کو کرنی چاہئیں۔



یہ ٹول کٹ ان طالب علموں کے لیے ہے جو نیا ساؤتھ ویلز کے عام سکولوں میں پڑھتے ہیں۔




یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے


- جو TAFE، یونیورسٹی یا کسی اور تعلیمی ادارے میں پڑھتے ہیں
- خاندان اور سنبھالنے والے



یہ ٹول کٹ آپ کو یہ سکھائے گی کہ آپ کو سیکھنے کے لیے جس مدد کی ضرورت ہے، آپ اس کے لیے اپنے سکول سے کیسے بات کر سکتے ہیں۔

اس ٹول کٹ کے 6 حصے ہیں۔





آپ کے گولز (مقاصد)

زندگی میں کچھ گولز بنانا اچھا ہوتا ہے۔



گول کا مطلب ہے کہ آپ کیا حاصل کرنا یا کہاں پہنچنا چاہتے ہیں۔



کبھی کبھی آپ کو اپنے گولز پورے کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔



یہاں اپنے گولز کے بارے میں سوچنے کے لیے کچھ طریقے بتائے جا رہے ہیں۔



سوچیں کہ آپ کن چیزوں میں اچھے ہیں۔



سوچیں کہ آپ کو کن چیزوں سے سیکھنے میں مدد ملتی ہے۔



سوچیں کہ آپ کو کن چیزوں کی وجہ سے سیکھنے میں مشکل ہوتی ہے۔



سوچیں کہ کن چیزوں سے سکول میں آپ زیادہ خوش رہیں گے۔



آپ کے گھر والے یا کیئرر آپ کو ان باتوں پر سوچنے
میں مدد دے سکتے ہیں۔



وہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو کن چیزوں سے
سکول میں سیکھنے میں مدد ملے گی۔




آپ اپنے گولز اپنے ٹیچر کو بتا سکتے ہیں۔
اس طرح ٹیچر کو آپ کے بارے میں زیادہ پتہ
چل جائے گا۔



وہ سمجھ جائیں گے کہ وہ آپ کو سیکھنے کے
لیے کیسے مدد دے سکتے ہیں۔



اپنے گولز بنانے کے لیے وہ چیزیں استعمال کریں
جن کے بارے میں آپ سوچتے رہے ہیں۔



اپنے گولز بتائیں

آپ جیسے بھی چاہیں، اپنے ٹیچر کو اپنے گولز بتا سکتے ہیں۔



آپ کاپی یا خط میں اپنے گولز لکھ سکتے ہیں۔




آپ وڈیو یا آواز کی ریکارڈنگ بنا سکتے ہیں۔



یہ اچھا ہوتا ہے کہ ٹیچرز آپ کے بارے میں زیادہ جانتے ہوں۔



اس طرح وہ آپ کو اس طریقے سے سیکھنے کے لیے مدد دے سکتے ہیں جو آپ کے لیے ٹھیک ہو۔




مفید ٹولز

کچھ ویب سائٹس آسان تحریر میں نہیں ہیں۔
آپ کسی سپورٹ پرسن سے مدد مانگ سکتے ہیں۔




یہ خط آپ کے والدین کے کام آ سکتے ہیں

www.thegrowingspace.com.au/tip-a-letter-to-my-childs-teacher-for-the-new-school-year




یہ خط طالب علموں اور ٹیچرز کو آپ کے بچے کے متعلق
زیادہ جاننے کے لیے مدد دے سکتا ہے

www.inkyed.files.wordpress.com/2009/04/mac2det.pdf



اس ویب سائٹ پر پوائنٹ 4 آپ کو اپنے گولز بنانے
کے لیے مدد دے سکتا ہے

www.allmeansall.org.au/for-parents



اس وڈیو میں سب کو شامل رکھنے کے متعلق کچھ
معلومات ہیں

[www.family-advocacy.com/ordinary-lives/
school-years](http://www.family-advocacy.com/ordinary-lives/school-years)



اس کتابچے میں سب کو شامل رکھنے کے متعلق کچھ
معلومات ہیں

[www.family-advocacy.com/assets/ce93bc49e3/
all-students-learning-together-booklet.pdf](http://www.family-advocacy.com/assets/ce93bc49e3/all-students-learning-together-booklet.pdf)

